



## سوال

(686) علمائے اہلحدیث سے سوال

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

علمائے اہلحدیث سے سوال

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

### علمائے اہلحدیث سے سوال

جمع علمائے اہلحدیث سے عموماً اور مولانا ابو الوفاء ثناء اللہ صاحب سردار اہلحدیث صوبہ پنجاب اور مولانا ابو الطاهر صاحب محدث فاضل بہاری مدرس اول و مستم مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ صدر بازار دہلی اور مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی اور مولانا عبداللہ صاحب امرتسری روپڑی سے خصوصاً سوال ہے کہ آمین با بجر اور رفع الیدین نماز میں فرض ہے یا واجب یا سنت بر تقدیر اول و دوم دلیل ارشاد ہو اور قرآن و حدیث سے صحیح ثابت عنایت فرمائیں اور بر تقدیر سوم کیا وجہ ہے کہ دونوں کے نہ کرنے والوں کو برا سمجھتے اور گمراہ و بے دین کہتے صرف آمین با بجر اور رفع الیدین کے ترک سے نماز کو ناقص بتاتے بلکہ باطل قرار دیتے ہیں اب یہ ارشاد ہو کہ جو لوگ بلا رفع الیدین نماز کو ناقص کہتے ہیں وہ بر سر حق ہیں یا بر سر باطل بر تقدیر اول تحقیقات علمائے محققین و محدثین و فقہائے کرام سے سرفراز فرمائیں اور بر تقدیر ثانی کیا وجہ ہے کہ آپ ایسے بزرگان اور راہنمایان کو ہدایت و تنبیہ نہیں فرماتے کہ آمین با بجر اور رفع الیدین نہ کرنے والوں کو برا نہ کہیں امید آپ حضرات میری عرض کو قبول فرما کر اپنی اپنی تحقیقات سے بذریعہ اخبار اہلحدیث جو مذہب اہل حدیث کا آرگن ہے مطلع فرمائیں گے اور بے اتفاقی کو راہ نہیں دیں گے خصوصاً مولانا اڈیٹر اہلحدیث سے امید و ائق ہے کہ میری اس عرض کو اپنے اخبار حق آٹھار میں جگہ دیں گے اور اس کا جواب بھی شائع فرمائیں گے والسلام مع الاکرام (خاکسار عبدالجبار امر دہوی ازدہلی چاندی چوک)

### اہلحدیث

محدثین کسی فعل کو فرض واجب سنت وغیرہ نہیں کہتے مگر جس کو صاحب شریعت نے کہا بلکہ ان کا اصول وہی ہے جو اہلحدیث کے الفاظ ہیں۔ صلوا كما ربهتموني ا صلی جس طرح مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا اسی طرح پڑھا کرو اس لئے آمین رفع الیدین کی بابت وہ اپنے اصول سے یہ اصطلاحی لفظ سنت مستحب وغیرہ نہیں بولتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ افعال صلوة ہیں ہاں متاخرین نے ان اصطلاحات پر کہیں کہیں اظہار خیال کیا ہے سوان کے نزدیک چونکہ یہ دونوں فعل سنت ہیں اور سنت کے ترک سے نقصان آنا لازمی ہے گو بطلان کے درجہ تک نہ سہی اس



لئے رفع الیدین کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے نہ کرنے والا اس سے محروم رہتا ہے۔

ہذا ما عنہم والی اللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ ثنائیہ امرتسری

جلد 2 ص 769

محدث فتویٰ